

کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران برامپٹن میں فیملی ڈے 2021 کی تقریبات

برامپٹن، آن – فیملی ڈے ہماری کمیونٹی میں خاندانوں کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اس سال، فیملی ڈے بروز پیر، 15 فروری 2021 کو منعقد ہو رہا ہے، لہذا، اس دن سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب نہیں ہوں گی یا معمول سے کم کی سطح پر کام کریں گی۔

تمام ضروری اور فوری نوعیت کی خدمات، بشمول فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، ٹریفک سروسز، ہائی لاء انفورسمنٹ، روڈ آپریشنز، سیکورٹی سروسز، ہماری کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کے لیے معمول کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گی۔

کسی بھی قسم کی انکوائری کے لیے رہائشی 311 پر یا 905.874.2000 (برامپٹن کے باہر سے) پر کال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ برامپٹن 311 ایپ (ایپ اسٹور یا گوگل پلے پر دستیاب ہے) استعمال کر سکتے ہیں، ملاحظہ کریں: www.311brampton.ca یا ای میل: 311@brampton.ca پر کسی بھی انکوائری کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم سٹی آف برامپٹن یا ریجن آف پیل کے ہر قسم کے معاملات کے لیے 24/7 دستیاب ہیں، بشمول کووڈ-19 کے متعلق کسی بھی قسم کے استفسارات۔ مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں۔

میئر کی نیو اینرز لیوی

آپ کو میئر کی نیو اینرز لیوی میں آن لائن شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے، جو بروز ہفتہ، مورخہ 13 فروری کو دن 11 بجے منعقد ہو گی۔ سٹی ٹی وی کی کرسٹینا ہورن کی میزبانی میں، برامپٹن کے میئر پیٹرک براؤن اور کونسل اراکین کے خطابات و پیغامات سنیں، برامپٹن کے بارے میں اپنے علم کی جانچ کریں اور ٹریویا گیمز کے ذریعہ مقامی کاروباری اداروں کی معاونت کریں اور ڈاؤن ٹاؤن کے شرکت کنندگان کاروباری اداروں کی جانب سے پیش کیے جانے والے ای گفٹ کارڈز جیتنے کے مواقع میں شامل ہو جائیں۔ ورچوئل فوٹو ہاتھ سے تصویر کشی کو ہر گز نہ بھولیں! مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: www.brampton.ca/events

برامپٹن ٹرانزٹ

برامپٹن ٹرانزٹ فیملی ڈے پر اتوار/چھٹی کے شیڈول کے مطابق کام کرے گی لیکن کچھ روٹس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ چلنے والے روٹس میں درج ذیل شامل ہیں:

- 501 زوم کوئیں
- 502 زوم مین
- 505 زوم بوویرڈ
- 511 زوم سٹیلس
- 1 کوئیں
- 2 مین
- 3 میک لافلن
- 4 چنگواکوسی
- 5 بوویرڈ
- 7 کینیڈی
- 8 سنٹر
- 11 سٹیلس
- 14 ٹوربرام
- 15 برامیلا
- 18 ڈکسی
- 23 سینڈل ووڈ
- 29 ولیمز
- 30 اینرپورٹ روڈ
- 35 کلارک وے
- 50 گورے روڈ
- 52 میک مرچی

- 53 رے لاسن
- 56 کنگ نول
- 57 چارلویس
- 115 پیئرسن ایئرپورٹ ایکسپریس

مزید معلومات کے لیے، کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر رابطہ کریں یا bramptontransit.com ملاحظہ کریں۔ کنٹیکٹ سنٹر مورخہ 15 فروری کو صبح 9 تا رات 6 بجے تک کھلا رہے گا۔

مورخہ 15 فروری کو تمام کسٹمر سروس کاؤنٹرز عوام کے لیے بند رہیں گے۔ برامیلا، برامپٹن گیٹ وے اور ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینل کی عمارتیں صبح 6 تا رات 9 بجے تک کھلی رہیں گی۔ ٹرنٹی کامنز ٹرمینل بدستور بند رہے گا۔

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

سٹی مسافروں پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جتنی ممکن ہو جسمانی فاصلہ بندی برقرار رکھیں۔ مسافروں کو اس بات کی بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنی ذاتی جراثیم کش، مثلاً ہینڈ سینٹائزر یا وائپس اپنے ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔ اگر آپ بیمار ہوں، تو قریبی ترین کووڈ-19 اسپسمنٹ سائٹ سے ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔

پبلک ہیلتھ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق، مسافروں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ بسوں اور ٹرمینلز پر ایسے نان میڈیکل ماسک لازمی ہیں جو آپ کی ناک، منہ اور ٹھوڑی کو ڈھانپ سکتے ہوں۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔

باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے www.brampton.ca/COVID19 ملاحظہ کریں یا سروس اپ ڈیٹس کے لیے www.bramptontransit.com دیکھیں یا [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو ٹوئٹر پر فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

برامپٹن ریکرییشن

فیملی ڈے فن آن لائن

مورخہ 13 اور 14 فروری کو سٹی آف برامپٹن کے پروگرام قانڈین کی قیادت میں مفت ورچوئل گیمز اور سرگرمیوں سے خوب لطف اٹھائیں! پوری فیملی کو فیملی فیوڈ، جیو پورڈی یا سکیونجر ہنٹ کے لیے رجسٹر کرائیں۔ ویب ایکس (WebEx) پلیٹ فارم کے ذریعے مختلف نشنیں دستیاب ہیں۔ آن لائن طور پر مکمل تفصیلات www.brampton.ca/recreation پر دستیاب ہیں۔

اگر آپ کسی ایسی سرگرمی کو ترجیح دیتے ہیں، جسے آپ اپنی رفتار کے مطابق کر سکیں، تو فیملی پلاک یا تھم پرنٹ فیملی ٹری کو بنانے کے لیے ایک مفت دستکاری کٹ کا انتخاب کریں۔ مورخہ 11 اور 12 فروری کو ٹچ لیس، کرب سائڈ پک اپ دن 3:30 تا 7:30 بجے تک ساؤتھ فلیچر کے اسپورٹسلیکس اور گرینبرئیر ریکرییشن سینٹر میں دستیاب ہے۔ براہ کرم پک اپ کے دوران اس جگہ کے نشانات و علامات اور تحفظ کی تمام ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ دستکاری کی کٹیں پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پر دستیاب ہیں اور اختتام تک فی خاندان ایک عدد کٹ جاری کی جائے گی۔ براہ کرم مکمل تفصیلات کے لیے www.brampton.ca/recreation چیک کریں۔

آؤٹ ڈور اسکیٹنگ

فیملی ڈے کے موقع پر سٹی آف برامپٹن کی آنس رنکس صرف بکنگ کے ذریعے اور موسم کی صورت حال کے مطابق دستیاب ہوں گی اوقات کار کی معلومات اس ویب سائٹ پر دستیاب ہے: www.brampton.ca/outdoorskating

کمیونٹی کی صحت و تحفظ سٹی کی اہم ترجیحات میں شامل ہے، بالخصوص کووڈ-19 کے دوران۔ پبلک ہیلتھ کی سفارشات کے مطابق، رنکس میں جانے کے لیے بکنگ کا ایک نظام فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ گنجائش کی حد کو برقرار رکھا جائے اور

ضرورت پڑنے پر کنٹیکٹ ٹریسنگ بھی ممکن ہو سکے۔

پیشگی بکنگ 24 گھنٹے پہلے تک دستیاب ہے۔ رہائشی درج ذیل طریقے سے بکنگ کرا سکتے ہیں:

• آن لائن طور پر رجسٹریشن کے لیے: cityofbrampton.perfectmind.com

• ہماری بکنگ لائن کو 905.791.2240 پر کال کریں

• شہر کی حدود کے اندر سے سروس برامپٹن کو 311 پر کال کریں

ہر بکنگ کا وقت ایک گھنٹے تک محدود ہو گا تمام سرپرستوں کے لیے بھی بکنگ کرانا لازمی ہے، جن میں والدین، سرپرست یا دیگر ایسے افراد شامل ہیں جو اسکیترز کے ساتھ آنا چاہتے ہوں لیکن آئس پر نہ جا رہے ہوں۔ رہائشیوں سے التماس ہے کہ اپنی آمد پر خیرمقدمی ٹینٹ میں تشریف لے جائیں۔ اگر آپ اپنی بکنگ کو منسوخ کرنا چاہتے ہوں، تو 905.791.2240 پر کال کریں یا reconnects@brampton.ca پر اپنی بکنگ سے ایک گھنٹہ پہلے ای میل بھیجیں۔

تمام آؤٹ ڈور اسکیتنگ رنکس میں دس (10) سال کی عمر سے زیادہ تمام شرکت کنندگان کے لیے نان میڈیکل ماسکس یا فیس کورنگز کا استعمال لازمی ہے۔ اسکیتنگ کے دیگر تمام مقامات بشمول واش رومز، اسٹیجنگ ایریاز اور مختص کردہ اسکیت نشست کے انتظار میں کھڑے ہونے کے دوران ہر عمر کے شرکت کنندگان کے لیے نان میڈیکل ماسک یا فیس کورنگ کا استعمال لازمی ہے۔

گھر پر تفریح

گھر پر رہتے ہوئے، آن لائن فٹنیس اور کرافٹ ٹیوٹوریلز کے ذریعے فعال اور مصروف رہیں۔ ایک فُل ہاڈی سرکٹ آزمائیں، اوری گیمی ہرٹس بنانے کا طریقہ سیکھیں، اپنی کیلیگرافی کی مہارتوں میں نکھار پیدا کریں اور مزید بہت کچھ مختلف اقسام کی گھریلو سرگرمیوں کے حوالے سے: www.brampton.ca/recathome

کووڈ-19 کی وجہ سے تفریحی مراکز بند رہیں گے۔ ہمارے تفریحی پروگراموں اور سروسز کے لیے www.brampton.ca/recreation ملاحظہ کریں۔

برامپٹن لائبریری

فیملی ڈے کے موقع پر تمام شاخوں میں کرب سائیڈ پک اپ کی سہولت دستیاب نہیں ہو گی۔ ہماری ڈیجیٹل لائبریری سے کسی بھی وقت تلاش کے لیے www.bramptonlibrary.ca ملاحظہ فرمائیں۔

آپ کے لائبریری کارڈ کے ذریعے، ہماری ویب سائٹ ڈیجیٹل ای بکس، ای آڈیو بکس، ٹی وی اور مووی اسٹریمنگ، آن لائن لرننگ اور آرٹس و دستکاری تک بغیر کسی رکاوٹ کی پیش کش کرتی ہے۔ ہماری ویب سائٹ کے [تقریبات کے کیلینڈر](#) سے ہر عمر اور دلچسپی کے افراد کے لیے ورچوئل پروگرام تلاش کریں۔

تمام برانچ لائبریریوں میں 24 گھنٹے بیرونی ڈراپ باکس کے ذریعے واپسی کی آسان سہولت سے لطف اٹھائیں۔ ہماری ای میل اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں اور ہمیں [فیس بک](#)، [ٹویٹر](#)، اور [انسٹاگرام](#) پر فالو کریں۔

برامپٹن اینیمل سروسز

فیملی ڈے کے موقع پر برامپٹن اینیمل شیلٹر بند رہے گا۔

اینیمل کنٹرول پیر تا جمعہ صبح 7 تا رات 10 بجے تک اور بروز ہفتہ اور اتوار اور چھٹیوں کے دنوں میں دن 8 تا شام 6:30 بجے تک سڑکوں پر موجود ہوتا ہے اور صرف درج ذیل کالوں پر ردعمل دے گا:

- بیمار/زخمی/جارحانہ گھریلو جانور اور جنگلی جانوروں کو اٹھانا
- جارحانہ جانور کے لیے
- زیادہ بھاگنے والے کتوں کو پکڑنا
- کتے کے کاٹنے کی تحقیق
- بند کردہ آوارہ کتے کو اٹھانا
- مردہ جانور کو اٹھانا

فیملی ڈے کے حوالے سے پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے یاددہانیاں

چونکہ ریجن آف پیل کی جانب سے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششیں جاری ہیں، لہذا [علاقائی سہولت گاہیں اور سروسز](#) تاحکم ثانی متاثر رہیں گی۔ براہ کرم ممکنہ حد تک اپنے گھر کے اندر رہ کر، وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ فیملی ڈے ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب ہم اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر براہ کرم اس سال خوشیاں مناتے ہوئے درج ذیل چیزوں کا ضرور خیال رکھیں:

- صرف اپنے گھر کے قریبی افراد اور ضروری معاونین کے ساتھ ہی سماجی روابط رکھیں۔
- اپنے گھر سے باہر رہنے والے خاندان کے لوگوں اور دوستوں کے لیے بے شمار تصویریں بنائیں اور ان کے ساتھ ورجوئل کالز کا بندوبست کریں تاکہ آپ کے روابط اور جسمانی فاصلہ بھی برقرار رہے۔
- درج ذیل چار بنیادی چیزوں پر عمل درآمد کرنا جاری رکھیں:
 - جسمانی فاصلہ کم از کم 2 میٹر رکھیں
 - ماسک پہنیں
 - اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں
 - اگر بیمار ہوں، تو گھر ہی رہیں

30--

سٹی آف برامپٹن میڈیا کنٹیکٹ

گروندر سنگھ
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
سٹریٹیجک کمیونیکیشنز
سٹی آف برامپٹن

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca**ریجن آف پیل میڈیا کنٹیکٹ**

ایشلے ہاکنز
کمیونیکیشنز اسپیشلسٹ – پبلک ہیلتھ
ریجن آف پیل

416.818.4421 | ashleigh.hawkins@peelregion.ca